

## Press Release

November 18, 2015

*For immediate release*

### **SECP organizes awareness seminar at NUST Business School, Islamabad**

ISLAMABAD, November 18: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) reached to, the students of NUST Business School at its campus in Islamabad and a seminar was organized for NBS students on investment education and awareness.

During the seminar, the Chairman SECP's vision for increasing awareness of financial markets, products with particular emphasis on fraud prevention was communicated to the attending students.

It was an interactive seminar where students were encouraged to acquire learned financial behavior to help their professional careers. The focus of the seminar remained on promoting a culture of savings and investments and students were made familiar with the market operations and practices.

Another key feature of the program focused on educating the students about the investor education portal launched by SECP titled 'Jamapunji', its rich contents and multiple features. The students and faculty were also informed about the launch of mock trading competition through Jamapunji's portal to enhance their understating of capital markets and its operations.

The seminar was attended by a sizable group of students pursuing master's level education in Finance. The seminar was followed by an interactive discussions and a Q&A session. The participants appreciated SECP's efforts in fulfilling its social responsibility in the area of investors' awareness.

ایس ای سی پی کے زیر اہتمام نسٹ سکول آف بزنس میناگاہی سیمینار

اسلام آباد ( ۱۸ نومبر ) سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان فنانشل سیکٹر میں موجود مواقعوں ، محفوظ سرمایہ کاری اور سرمایہ کاروں کے میں اعتماد میں اضافے اور طالب علموں میں بچتوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لئے سے تسلسل سے آگاہی سیمینار منعقد کر رہا ہے۔  
ایس ای سی پی کے انوسٹر ایجوکیشن پروگرام کے تحت نسٹ سکول آف بزنس میں ایسے ہی ایک سیمینار

کا اہتمام کیا۔ سیمینار کے شرکاء کو میوچل فنڈز، پنشن سکیموں، مضاربہ اور سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے مواقعوں سے آگاہ کیا گیا۔ ایس ایس ی پی کے حکام فنانشل سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لئے دستیاب سکیموں میں سرمایہ کاری کرنے کے قانونی طریقہ کار، فوائد اور سرمایہ کاروں کو حاصل تحفظ سے بھی آگاہ کیا۔

ایس ای سی پی کے انوسٹر ایجوکیشن پروگرام کے تحت شروع کیا جانے والا ویب پورٹل 'جمع پونجی' سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والے عوام کو مختلف مالیاتی شعبوں میں سرمایہ کاری کے دستیاب مواقعوں اور ان سے متعلق فوائد و ضوابط اور ضروری احتیاطی تدابیر سے متعلق آگہی فراہم کرتا ہے۔ اس ویب پورٹل کو عوام اور خاض طور پر سرمایہ کاروں کی جانب سے کافی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ طالب علموں کو انوسٹر ایجوکیشن کیلئے خصوصی طور پر بنائے گئے ویب پورٹل 'جمع پونجی' کے پر دستیاب فنانشل سیکٹر اور سرمایہ کاری سے متعلق معلومات بارے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس پورٹل پر مختلف اقسام کی سرمایہ کاری کے لئے ضروری احتیاطی تدابیر بھی دی گئی ہیں جبکہ اس کے ذریعے کمپنیوں کے ایس ای سی پی کے ساتھ رجسٹر ہونے کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری سے متعلق سوالات کے جوابات، جعلی سکیموں کو جاننے کی جانچ پڑتال کے طریقہ کار، مالیاتی منصوبہ بندی کے تناظر میں تیار کی گئی کمپیوٹر گیم اور دیگر سرگرمیاں اس پورٹل کا حصہ ہیں۔ طالب علموں نے ایس ای سی پی کے اقدام کو سراہا اور ایسے مزید پروگرام منعقد کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سیمینار کے اختتام پر سرمایہ کاری کی سکیموں اور قوانین کے متعلق سیمینار کے شرکاء کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔